

## ہمارے بارے میں

AAPI کومتی اتحاد بنیادی گروہ ہے جو کہ ایشیائی، امریکی، اور جزائر بحر الکاہل کی برادریوں کے ووٹرز کو تعلیم اور رسائی کے ذریعے با اختیار بنا تا ہے۔ ہمارے اتحاد میں 10 تنظیمیں شامل ہیں جو کہ نیویارک سٹی کی مختلف برادریوں کے لئے خدمات سر انجام دیتی ہیں۔

**AAPI POWER  
COALITION**



ایشین امریکن فیڈریشن، جسکا قیام 1989 میں ہوا، اُن 1.5 ملین نیویارکرز، جو کہ نیویارک کی ایشیائی کمیونٹی کا حصہ ہیں، کے لئے عظیم تر انصاف اور مواقع کی وکالت کرنے والی نیویارک سٹی کی سب سے طاقتور لیڈرشپ کی آواز ہے۔

ہم سے رابطہ کریں

120 Wall Street, 9th Fl,  
New York, NY 10005

vote@aafederation.org

(212) 344-5878

## اہم انتخابی تواریخ

ووٹر رجسٹریشن کی آخری  
تاریخ

بذاتِ خود اور بذریعہ ڈاک

جمعہ  
جون

3

غیر حاضر بیلٹ کی درخواست  
کا آخری دن

بذریعہ ڈاک

سوموار  
جون

13

بذاتِ خود

سوموار  
جون

27

ابتدائی ووٹنگ کا مرحلہ

جون 18 - جون 26

اوقات مختلف ہیں

پرائمری انتخاب کا دن

بذاتِ خود

منگل  
جون

28

صبح 6 بجے - رات 9 بجے

غیر حاضر بیلٹ واپس کرنے کا  
آخری دن

بذاتِ خود اور بذریعہ ڈاک

منگل  
جون

28


## میں کسے ووٹ دے سکتا ہوں؟

### وفاقی دفاتر

اس سال، اپ کانگریس کے دونوں چیمبر رز کے نمائندگان کو ووٹ دے سکتے ہیں: یو ایس سینٹ اور ایوانِ نمائندگان۔ انہیں نئے وفاقی قوانین بنانے اور منظور کرنے کے لئے اکٹھے ہو کر اور صدر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔




**یو ایس سینٹ** یو ایس کانگریس کا بالائی چیمبر۔ سینٹ کے 100 اراکین ہوتے ہیں، ہر ریاست سے دو۔ یہ 6 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتے ہیں۔



**یو ایس ایوانِ نمائندگان** یو ایس کانگریس کا زیریں چیمبر۔ اس میں 435 اراکین ہیں۔ 2023 میں نیو یارک کے 26 نمائندگان ہو گئے۔ یہ 2 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتے ہیں۔

یہ انتخاب ملتوی ہو گیا ہے اور 23 اگست کو ہوگا



## ریاستی دفاتر

نیو یارک کی ریاستی حکومت اس طرح وفاقی حکومت کے مشابہ ہے کہ اس کی تین شاخیں ہیں: مجلس عاملہ، قانون ساز اور عدالتی (ریاست کا عدالتی نظام)۔ اس سال، اپ ان کے لئے ووٹ دے سکتے ہیں:

## مجلس عاملہ کے دفاتر

**گورنر** نیویارک کا چیف ایگزیکٹو۔ بلز کو قانون کے طور پر منظور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ 4 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتا ہے -



**کنٹرولر** نیویارک کا چیف افسر مالیات - ریاستی بجٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ 4 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتا ہے -




**اٹارنی جنرل** نیو یارک کا قانون کا چیف افسر - نیو یارک کے

شہریوں کے قانونی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 4 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتا ہے۔




## ریاستی قانون ساز

**ریاستی سینٹ** ریاستی قانون ساز کا بالائی چیمبر۔ اس میں ریاست کے مختلف حصوں کی نمائندگی کرنے والے 63 اراکین ہوتے ہیں۔ یہ 2 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ انتخاب ملتوی ہو گیا ہے اور 23 اگست کو ہوگا



**ریاستی اسمبلی** ریاستی قانون ساز کا زیریں چیمبر۔ اس میں ریاست کے مختلف حصوں کی نمائندگی کرنے والے 150 اراکین ہوتے ہیں۔ یہ 2 سال کی مدت کے لئے منتخب ہوتے ہیں۔



یہاں اسکین کریں!



معلوم کریں کہ کونسے امیدوار آپکے بیلٹ پر ہیں:

## پرائمری انتخاب

پرائمری انتخاب میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نومبر میں ہونے والے عام انتخابات کے لئے کونسے امیدوار اپنی پارٹی سے نامزد کئے جائیں گے۔

نیویارک کے پرائمری انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لئے آپ کو کسی ایک سیاسی جماعت میں رجسٹر ہونا پڑے گا۔ جب آپ ووٹ کے لئے رجسٹر ہوتے ہیں تب ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں یا پھر اپنی رجسٹریشن کو اپ ڈیٹ کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔

آپ اپنی پارٹی رکنیت کو یہاں چیک کر سکتے ہیں:



## ووٹ کے لئے رجسٹریشن

جون کے انتخاب کے لئے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 3 جون ہے۔ لہذا انتظار نہ کریں!



آن لائن رجسٹر کریں یا ایک کاغذی فارم پُر کر کے۔ مکمل شدہ کاغذی فارم انتخابی بورڈ کو ڈاک کئے جا سکتے ہیں یا ویسے پہنچائے جا سکتے ہیں۔

اگر آپ کورجسٹریشن کے لئے مدد کی ضرورت ہے تو، ہمارے کسی رضا کار سے پوچھیں یا ہمیں اس پتہ پر ای میل کریں [vote@aa federation.org](mailto:vote@aa federation.org)



ایک اردو رجسٹریشن فارم ڈائلوڈ اور پرنٹ کریں: فارم انگریزی میں پُر کیا جانا چاہئے



آن لائن ووٹ دینے کے لئے رجسٹر کریں: (صرف انگلش)



## میں کیسے ووٹ دے سکتا ہوں؟

### پہلے بذات خود ووٹ دیں

نیو یارک سٹی کا ہر ووٹر انتخاب کے دن سے پہلے بذات خود ووٹ دے سکتا ہے۔ پہلے سے ووٹ دے دینا آسان، جلد اور آرام دہ ہے۔

اپنے 18 جون - 26 جون سے پہلے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اگرچہ ہر دن اوقات مختلف ہونگے۔



### انتخاب کے دن ووٹ دیں

پرائمیری انتخاب کے دن، 28 جون کو ووٹ کے ذریعہ اپنی آواز باور کرائیں۔

پولنگ صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔

پہلے ووٹ دینے اور الیکشن کے دن ووٹ دینے کے لئے اپنی پولنگ کی جگہ جاننے کے لئے نیو یارک سٹی کے انتخابی بورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں:-

یہاں اسکیں کریں!



### غیر حاضر ر ووٹ ڈالنے والا


اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنا ایک محفوظ، آسان اور مستحکم طریقہ ہے۔

ایک واپسی کا لفافہ اور ہدایات بھی شامل ہونگی۔ تاہم، آپکو اپنے بیلٹ میں ڈاک پر ٹکٹ لگانا ہوگی - ہم 2 ٹکٹیں تجویز کرتے ہیں -

غیر حاضر ری کا بیلٹ اپنے آپکو ڈاک کرنے کے لئے درخواست دیں:

\*غیر حاضر بیلٹ آپکی کاؤنٹی کے انتخابی بورڈ تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے یا آپکی پولنگ کی جگہ پر انتخاب کے دن


یہاں اسکیں کریں!



## ووٹروں کی رسائی

### زبان کے بارے میں مدد

بعض پولنگ کے مقامات پر اردو ترجمان موجود ہیں۔



اگر آپکو پولنگ کے مقام پر زبان کے بارے میں  
مدد کی ضرورت ہے، تو آپکو اپنا ترجمان اپنے ساتھ  
لانے کا حق بھی حاصل ہے۔



یہ جانئے کہ کونسے پولنگ کے مقامات ترجمانی  
کی خدمات پیش کریں گے:-

یہاں اسکن کریں!



### مدد برائے معذور

بیلٹ پر نشان لگانے والے آلات پولنگ کے مقامات پر میسر ہونگے  
جو کہ ایسے ووٹرز کے لئے مددگار ثابت ہوسکتے  
ہیں جو نابینا، کمزور بینائی یا کسی ایسی معذوری یا حالت کا شکا  
ر ہیں جن کے لئے قلم کے ذریعے بیلٹ پر نشان لگانا  
مشکل یا ناممکن ہے۔



بیلٹ پر نشان لگانے والے آلات کے  
بارے میں مزید جانئے:

یہاں اسکن کریں!



## ز یادہ تر پوچھے جانے والے سوالات

### کیا مجھے شناختی کارڈ لانے کی ضرورت ہے؟

یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پہلی بار ووٹ دینے والے اپنے ہمراہ شناختی کارڈ لائیں۔

### اگر میں کہیں اور منتقل ہو چکا ہوں تو پھر؟

جب آپ کہیں اور منتقل ہو جائیں، تو ایک نیا ووٹر رجسٹریشن فارم جمع کروا کر آپ کو انتخابی ووٹ میں اپنا پتہ تبدیل کروا لینا چاہیے۔

### کون ووٹ دینے کا اہل ہے؟

اپ ووٹ کے لئے رجسٹر ہونے کے اہل ہیں اگر آپ:

1. ایک امریکی شہری ہیں
2. کم از کم تیس دن سے نیویارک سٹی کے رہائشی ہیں
3. اور کم از کم 16 سال کے ہیں

اپ 16 یا 17 سال کی عمر میں ووٹ کے لئے رجسٹر کروا سکتے ہیں، لیکن ووٹ ڈالنے کے لئے آپ کا 18 سال کا ہونا ضروری ہے


### اگر میری پولنگ کی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو میں کسے کال کروں؟ (صرف انگریزی میں)


آپ اپنی پولنگ کی جگہ پر کسی بھی مسئلے کی صورت میں این-وائے-سی انتخابی بورڈ کو کال کر سکتے ہیں۔ پر کال کریں۔  
(1-866-868-3692) 1-866-Vote-NYC


### اگر میرے یا کسی اور کے حقوق پامال ہو رہے ہوں تو (میں کس سے رابطہ کر سکتا ہوں؟) (صرف انگریزی میں)


آپ الیکشن پروٹیکشن ہاٹ لائن پر رابطہ کر کے ایک ماہر الیکشن پروٹیکشن رضاکار سے بات کر سکتے ہیں اور مفت قانونی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پر کال کریں۔ 1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683)


### انتخابی ووٹ کے مقامات

**Manhattan**  
200 Varick Street, 10 Fl,   
New York, NY 10014

**Bronx**  
1780 Grand Concourse, 5 Fl,   
Bronx, NY 10457

**Staten Island**  
1 Edgewater Plaza, 4 Fl,   
Staten Island, NY 10305

**Brooklyn**  
345 Adams Street, 4 Fl,   
Brooklyn, NY 11201

**Queens**  
118-35 Queens Boulevard,   
Forest Hills, NY 11375

میں کہاں ووٹ دے رہا ہوں ؟

2022 میں انتخاب کا دن  
منگل 6/28 ہے

میں کس وقت ووٹ دے رہا ہوں؟

پولنگ صبح  
صبح 6 سے 9 بجے تک

کوئی سوالات ؟

aa federation.org/2022-primary-voter-guide پر جائیں ی ا نیچے دیا گیا QR کوڈ سکین کریں تاکہ آپ ووٹر رجسٹریشن، ووٹنگ کے طریقوں، سیاسی جماعتوں اور انکے بارے میں مزید معلومات، یا اپنے مقامی کاؤنٹی کے انتخابی بورڈ کے دفتر کے پتہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔

یہاں اسکین کریں!



یا ہم سے [vote@aa federation.org](mailto:vote@aa federation.org) پر رابطہ کریں

**AAPI POWER  
COALITION**

